

9- سلسلہ غذائی

سرسبز پھلنگے اور دیگر ذیخونہ گیانیاں سلسلہ غذائی کی ابتدا کرتی ہیں۔ ان سے کھانے والے جانوروں کو ذیخونہ گیانیاں کھاتے ہیں۔ ان سے کھانے والے جانوروں کو ذیخونہ گیانیاں کھاتے ہیں۔ ان سے کھانے والے جانوروں کو ذیخونہ گیانیاں کھاتے ہیں۔

ان سے کھانے والے جانوروں کو ذیخونہ گیانیاں کھاتے ہیں۔ ان سے کھانے والے جانوروں کو ذیخونہ گیانیاں کھاتے ہیں۔ ان سے کھانے والے جانوروں کو ذیخونہ گیانیاں کھاتے ہیں۔ ان سے کھانے والے جانوروں کو ذیخونہ گیانیاں کھاتے ہیں۔

ان سے کھانے والے جانوروں کو ذیخونہ گیانیاں کھاتے ہیں۔ ان سے کھانے والے جانوروں کو ذیخونہ گیانیاں کھاتے ہیں۔ ان سے کھانے والے جانوروں کو ذیخونہ گیانیاں کھاتے ہیں۔ ان سے کھانے والے جانوروں کو ذیخونہ گیانیاں کھاتے ہیں۔

ان سے کھانے والے جانوروں کو ذیخونہ گیانیاں کھاتے ہیں۔ ان سے کھانے والے جانوروں کو ذیخونہ گیانیاں کھاتے ہیں۔ ان سے کھانے والے جانوروں کو ذیخونہ گیانیاں کھاتے ہیں۔ ان سے کھانے والے جانوروں کو ذیخونہ گیانیاں کھاتے ہیں۔

ان سے کھانے والے جانوروں کو ذیخونہ گیانیاں کھاتے ہیں۔ ان سے کھانے والے جانوروں کو ذیخونہ گیانیاں کھاتے ہیں۔ ان سے کھانے والے جانوروں کو ذیخونہ گیانیاں کھاتے ہیں۔ ان سے کھانے والے جانوروں کو ذیخونہ گیانیاں کھاتے ہیں۔

9. THE FOOD CHAIN

Every creature on Earth is linked like the links of a chain, because it eats other creatures and, in turn, is eaten. It all begins with plants and links upwards through animals, creating a food chain.

Tiny plankton which float freely are the start of the food chain. They provide food for many animals in the sea, from the small coral polyp to the giant Whale Shark. Plant plankton are known as PHYTOPLANKTON, while animal plankton are called ZOOPLANKTON. If an animal doesn't feed on plankton directly, there is a good chance the animal that it eats does.



10- رېښه څرګندول




تاسو ښه پوه شئ چې کورالونه په ځان کې ځانګړي نباتات لري چې د کورالونو بدن ته د کربون ډای آکسایډ په توګه کارول کوي. د کورالونو بدن د کربون ډای آکسایډ په کارولو سره د کربون ډای آکسایډ په توګه کارول کوي. د کورالونو بدن د کربون ډای آکسایډ په کارولو سره د کربون ډای آکسایډ په توګه کارول کوي.

تاسو ښه پوه شئ چې کورالونه په ځان کې ځانګړي نباتات لري چې د کورالونو بدن ته د کربون ډای آکسایډ په توګه کارول کوي. د کورالونو بدن د کربون ډای آکسایډ په کارولو سره د کربون ډای آکسایډ په توګه کارول کوي. د کورالونو بدن د کربون ډای آکسایډ په کارولو سره د کربون ډای آکسایډ په توګه کارول کوي.

د کورالونو بدن د کربون ډای آکسایډ په کارولو سره د کربون ډای آکسایډ په توګه کارول کوي. د کورالونو بدن د کربون ډای آکسایډ په کارولو سره د کربون ډای آکسایډ په توګه کارول کوي. د کورالونو بدن د کربون ډای آکسایډ په کارولو سره د کربون ډای آکسایډ په توګه کارول کوي.

10. SHARING

Corals are also home to some plants. These are tiny plants called **ALGAE** which make their home inside the tube that is the body of the coral animal. They live together in a relationship from which both benefit. The coral produces the carbon dioxide and gives out certain chemical products that these algae need and which they would have difficulty in obtaining if they were free-living. The algae, on the other hand, provide some of the food and oxygen that the corals need.



11 - لایف سائیکل اور تولید

دیر وقت سے لایف سائیکل اور تولید کے بارے میں جاننا شروع کیا ہے۔ لایف سائیکل اور تولید کے بارے میں جاننا شروع کیا ہے۔ لایف سائیکل اور تولید کے بارے میں جاننا شروع کیا ہے۔

لایف سائیکل اور تولید کے بارے میں جاننا شروع کیا ہے۔ لایف سائیکل اور تولید کے بارے میں جاننا شروع کیا ہے۔ لایف سائیکل اور تولید کے بارے میں جاننا شروع کیا ہے۔

لایف سائیکل اور تولید کے بارے میں جاننا شروع کیا ہے۔ لایف سائیکل اور تولید کے بارے میں جاننا شروع کیا ہے۔ لایف سائیکل اور تولید کے بارے میں جاننا شروع کیا ہے۔

11. CORAL GROWTH AND REPRODUCTION

Like all plants and animals, corals also grow and produce new, young corals 'baby' corals (larvae). This is called REPRODUCTION, producing more like themselves. Corals reproduce in two ways:

BY SEXUAL REPRODUCTION: Like human beings, coral polyps produce eggs and sperms. These combine to form small baby corals (larvae). You have already learnt that larvae settle on dead coral or any other hard fixed surface and start to grow,

AND

BY BUDDING: The coral polyp simply divides into two halves, each half forming a new polyp. Or a new polyp grows out of the side of an existing polyp. Each new polyp makes its own limestone cover, This way of growing is called BUDDING, because, like a plant, many buds can form from the same stem.

